

## سوال

مکمل پردہ کر کے غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا

## جواب

الحمد

اللہ تعالیٰ نے عورت پر واجب کیا ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے اپنے سارے جسم کو چھپائے، اور اس میں چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہیں، اور یہ پردہ یا کپڑے جس سے جسم چھپایا جائے وہ کھلے ہوئے چاہیں جو کہ جسم کی ہیئت کو نہ اجباریں اور نہ ہی فتنہ پھیلانے کا باعث ہوں۔

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

جب عورت شرعی پردہ کیے ہوئے ہو یعنی اپنے چہرے اور بالوں اور باقی سارے بدن کا تو اس کے لیے اپنے دیوروں اور بچا زاد اور خالہ زاد وغیرہ کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو اور نہ ہی ان کے ساتھ خلوت ہو تو پھر بیٹھ سکتی ہے۔

لیکن اگر اس میں خلوت ہو یا پھر تمت اور الزام کا خدشہ ہو تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اھ

عورت کو اپنے خاوند کے عزیز و اقارب سے بھی پردہ کرنا ہوگا اور خاص کر دیوروں کا زیادہ خیال رکھے اور ان سے پردہ کرے، اس لیے کہ خاوند کے اقرباء اس کے گھر میں آئیں اور اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس پر کوئی اعتراض اور نکار بھی نہیں کرے گا جس کا انجام اچھا اور قابل تحسین نہیں۔

آپ مزید تفصیل کے لیے سوال نمبر (12837) کے جواب کا بھی مطالعہ کریں۔

157۔

واللہ اعلم.

م سوال و جواب

23302